

برائے فوری اجراء

## آپ کو دعوت دی جاتی ہے: برامپٹن میں عوامی آمد و رفت کے ذرائع کو بہتر شکل دینے میں مدد کریں

برامپٹن، آن (19 مارچ 2019) – برامپٹن ٹرانزٹ پر سفر کرے والے لوگوں اور رہائشیوں کو ستمبر میں سروس میں رونما ہونے والی بڑی بہتریوں کے آغاز سے پہلے اپنی فیڈبیک فراہم کرنے اور برامپٹن میں عوامی آمد و رفت کے ذرائع کو بہتر شکل دینے میں مدد دینے کی دعوت دی جاتی ہے۔

27 مارچ سے آغاز پر، برامپٹن ٹرانزٹ کی ٹیم پورے شہر میں مختلف جگہوں پر موجود ہو گی اور مجوزہ راستوں اور شیڈول میں تبدیلیوں کی تفصیلات پیش کرے گی اور منصوبوں کو حتمی شکل دینے سے پہلے عوامی رائے جمع کرے گا۔ 28 مارچ، 1 اپریل اور 4 اپریل کو، میٹرو لنکس (Metrolinx)، کوئین اسٹریٹ ہائی وے 7 بس ریپڈ ٹرانزٹ (BRT) کے اقدام اور ریپڈ ٹرانزٹ کے پراجیکٹس کی منصوبہ بندی کرنے اور تیاری کے عمل پر روشنی ڈالنے کے لیے برامپٹن ٹرانزٹ کے ساتھ شامل ہو گی۔

بدھ، 27 مارچ

برامپٹن گیٹ وے ٹرمینل (Brampton Gateway Terminal)

دن 3 - شام 6

جمعرات، 28 مارچ

سٹی ہال کنزرویٹری (City Hall Conservatory)

کوئین اسٹریٹ ہائی وے 7 BRT (Queen Street-Highway 7 BRT)

شام 5 - رات 8

ہفتہ، 30 مارچ

کیسی کیمپ بیل کمیونٹی سنٹر (Cassie Campbell Community Centre)

صبح 10 - دوپہر 1

پیر، 1 اپریل

برامیلا ٹرمینل (Bramalea Terminal)

کوئین اسٹریٹ ہائی وے 7 BRT (Queen Street-Highway 7 BRT)

دن 3 - شام 6

منگل، 2 اپریل

کیسی کیمپ بیل کمیونٹی سنٹر (Cassie Campbell Community Centre)

شام 5 - رات 8

بدھ، 3 اپریل

گور میڈوز کمیونٹی سینٹر (Gore Meadows Community Centre)

شام 5 - رات 8

جمعرات، 4 اپریل

سنچری گارڈنز ری کرییشن سنٹر (Century Gardens Recreation Centre)

کوئین اسٹریٹ ہائی وے 7 BRT (Queen Street-Highway 7 BRT)

شام 5 - رات 8

تشریف نہیں لا سکتے؟

سروس میں مجوزہ بہتریوں کے بارے میں معلومات بروز جمعہ، 22 مارچ سے [www.bramptontransit.com](http://www.bramptontransit.com) پر دستیاب ہوں گی، جس کے ساتھ آن لائن تبصروں کا ایک فارم بھی موجود ہو گا۔

### کیا آپ جانتے ہیں؟

برامپٹن ٹرانزٹ کو کینیڈا میں نفل و حمل کی سہولت کے تیز ترین بڑھوتری والے فراہم کنندگان میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے اور 2017 میں سواریاں 18% اور 2018 میں 14% بڑھیں۔ صارفین اور عملے کی جوابی آراء کے ذریعے، برامپٹن ٹرانزٹ اپنی تیز بڑھوتری کو برقرار رکھتے ہوئے، مسلسل اپنی خدمت کو بہتر کرنے کے لیے پرعزم ہے۔

### مربوط رہیں۔

برامپٹن ٹرانزٹ کو ٹوئٹر [@BramptonTransit](https://twitter.com/BramptonTransit)، فیس بک، [www.bramptontransit.com](https://www.bramptontransit.com) ملاحظہ کریں یا 905.874.2999 پر کال کریں۔ اور انسٹاگرام [@BramptonTransit](https://www.instagram.com/BramptonTransit) پر فالو کریں۔

30--

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

### میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال  
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ  
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن  
سٹی آف برامپٹن

[Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca) | 905-874-3426